

56-A

أَبْنَكُمْ	أَبْنَكُمْ (مذكر)	أَبْنَكُمْ
أَبْنَكُمِينَ	أَبْنَكُمِينَ	أَبْنَكُمَانَ
بِكُمْ	بِكُمْ	بِكُمْ
بِكُمَاءَ	بِكُمَاءَ (مؤنث)	بِكُمَاءَ
بِكُمَاوِينَ	بِكُمَاوِينَ	بِكُمَاوَانَ
بِكُمِ	بِكُمِ	بِكُمِ

أَخْفَرُ	أَخْفَرُ (مذكر)	أَخْفَرُ
أَخْفَرِينَ	أَخْفَرِينَ	أَخْفَرَانَ
خُفْرٍ (مذكر ومؤنث)	خُفْرًا	خُفْرًا
خُفْرَاءَ	خُفْرَاءَ (مؤنث)	خُفْرَاءَ
خُفْرَاوِينَ	خُفْرَاوِينَ	خُفْرَاوَانَ

أُحْوَرُ	أُحْوَرُ (مذكر)	أُحْوَرُ
أُحْوَرِينَ	أُحْوَرِينَ	أُحْوَرَانَ
حُورٍ (مذكر ومؤنث)	حُورًا	حُورًا
حُورَاءَ	حُورَاءَ (مؤنث)	حُورَاءَ
حُورَاوِينَ	حُورَاوِينَ	حُورَاوَانَ

مشق نمبر 56 (ب)

مندرجہ ذیل قرآنی عبارتوں میں (1) صفت الوان و عیوب تلاش کر کے ان کا صیغہ (عدد و جنس) بتائیں (2) مکمل عبارت کا ترجمہ کریں۔

1. اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ (البقرة: ۶۹)

(لون) صفراء: واحد مؤنث؛ بے شک وہ ایک پیلی گائے ہے۔

2. وَتَزَعُ يَدَافَاذِهِ بَيْضَاءَ لِلنَّظِيرَيْنِ (الأعراف: ۱۰۸)

(لون) بَيْضَاءُ: واحد مؤنث؛ اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا پس وہ دیکھنے والوں کے لئے سفید تھا۔

آسان عربی گرامر ————— مشق نمبر: 58 ————— اسماء الوان و عیوب

3. وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (الاعمل: ۷۰)

(عیب) أَبْكَمٌ: واحد مذکر؛ اور اللہ نے مثال دی دو آدمیوں کی۔ ان دونوں میں سے (میں کو) نفا (جو) ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔

4. وَنَحْشُرُ الْجُرْمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (طہ: ۱۱۲)

(لون) زُرْقًا: جمع مذکر و مؤنث؛ اور جس روز ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے (اللہ کہ انکی) آنکھیں نیلگوں ہوگی

5. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ (النور: ۳۱)

(عیوب) الْأَعْمَى: واحد مذکر۔ الْأَعْرَجُ: واحد مذکر۔ نابینا ہر کوئی تنگی نہیں اور لنگہ اپنا بیچ ہر کوئی تنگی۔

6. الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا (یس: ۸۰)

(لون) الْأَخْضَرُ: واحد مذکر۔ (وہی) جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ بنائی (پیدا کی)

7. كَانَتْ جَمَلَتْ صُفْرًا (المرسلات: ۲۳)

گویا کہ وہ زرد آؤنٹ ہے۔

(لون) صُفْرًا: جمع مذکر و مؤنث۔